



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 16/3/2023

گورنر HOCHUL کا یوم سینٹ پیٹرک پر شراب نوشی کرنے کے بعد ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان

ریاستی پولیس اور مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے 17 مارچ سے 19 مارچ کے درمیان خصوصی DWI کا نفاذ کریں گے

گورنر Kathy Hochul نے آج اعلان کیا ہے کہ ریاست نیو یارک کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے مقامی ادارے یوم سینٹ پیٹرک کے سلسلے میں اس ویک اینڈ پر جشن کے دوران شراب نوشی کے بعد، نشے کی حالت میں اور لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے والوں کی روک تھام کے لیے گشت میں اضافہ کریں گے۔ ٹریفک کے لیے یہ خصوصی نفاذ قانون جسے گورنر کی حفاظتی کمیٹی برائے ٹریفک کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے، جمعہ، 17 مارچ 2023 سے اتوار، 19 مارچ 2023 تک جاری رہے گا۔

نفاذ قانون کے اس دورانیے میں، ڈرائیورز کو DWI کے اضافی ناکوں اور ہوش و حواس میں ہونے کی جانچ کے لیے ناکوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ ریاستی پولیس ایسے عدم توجہی کے شکار ڈرائیوروں کو بھی ٹکٹ جاری کرے گی جو ہاتھوں میں پکڑی جانے والی الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال میں ملوث پائے گئے اور دوران مہم پرچون کی دوکانوں کی جانچ کرے گی جس میں شراب نوشی کی قانونی عمر سے کم عمر کے شراب نوشوں اور کم سن افراد کو شراب کی غیرقانونی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

"ہمارا پیغام واضح ہے: اگر آپ یوم سینٹ پیٹرک پر شراب کے ساتھ جشن منانے کا سوچ رہے ہیں، تو گھر تک محفوظ سفر کے لیے منصوبہ بندی کریں،" گورنر Hochul نے کہا، "اگر ہم سب لوگ حفاظت کو اولیت دیں تو نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے سانحات سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے۔ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کے خلاف ہم کوئی نرمی نہیں برتتے، اور میں اپنی ریاستی پولیس اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو تمام ویک اینڈ قانون نافذ کرنے کے لیے متحرک رہیں گے۔"

ریاست نیو یارک کی پولیس کے قائم مقام سپرنٹنڈنٹ Steven A. Nigrelli نے کہا، "نشے کی حالت میں یا لاپرواہی کا شکار ڈرائیور کی وجہ سے کوئی بھی جشن لمحے میں موت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جشن منانے جا رہے ہیں، تو براہ کرم ذمہ داری کے ساتھ جشن منائیں۔ قبل از وقت منصوبہ بندی کے ذریعے نیو یارک کی سڑکوں کو پورے ملک میں محفوظ ترین سڑکیں بنانے میں ہماری مدد کریں۔ شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ سے گریز کریں اور ایک نشے سے عاری ڈرائیور کی خدمات حاصل کریں۔ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جو کوئی انسانی زندگی بچا سکتا ہے۔"

ریاست نیو یارک کے محکمہ موٹر گاڑیوں کے کمشنر اور گورنر کی کمیٹی برائے ٹریفک سلامتی کے چیئر Mark J.F. Schroeder نے کہا، "نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے گریز 100 فیصد ممکن ہے۔ قبل اس کے کہ آپ جشن کے لیے نکلیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ خود کو اور دیگر افراد کو خطرے میں ڈالنے بغیر اپنی محفوظ گھر واپسی کے لیے منصوبہ بنائیں۔ یہ سادہ سے اقدامات ہماری سڑکوں اور زندگیوں کو محفوظ رکھنے میں مدد دیں گے۔"

گزشتہ برس کے یوم سینٹ پیٹرک پر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کے خلاف مہم کے دوران، جوانوں نے DWI کے خلاف 381 افراد کو گرفتار کیا، لاپرواہی سے ڈرائیونگ پر 754 ٹکٹس جاری کیے اور مجموعی طور پر 26,594 ٹکٹس جاری کیے۔

ہمارے ملک میں ہر سال نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے 11,600 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہر 45 منٹ بعد ایک فرد الکحل کی وجہ سے ہونے والی کسی ٹکر میں موت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ 32 افراد فی دن کی اوسط ہے، اور ان اموات میں سے ہر ایک سے گریز کیا جا سکتا ہے۔

نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کا انتخاب آپ کی یا کسی اور کی زندگی کو تباہ یا ختم کر سکتا ہے۔ اس یوم سینٹ پیٹرک پر، اگر آپ شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو آپ کو جیل جانا پڑے گا، لائسنس سے ہاتھ دھونا ہو گا، زیادہ شرح پر بیمہ ہو گا، اور درجنوں غیر متوقع اخراجات اٹھانا پڑیں گے۔ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے متعلقہ الزامات میں \$10,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔

ریاست نیو یارک کی پولیس اور گورنر کی حفاظتی کمیٹی برائے پولیس (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان آسان اقدامات پر عمل کا عزم کریں، تاکہ آپ سڑکوں پر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے بغیر ایک محفوظ تعطیل کا لطف لے سکیں۔

- جشن شروع ہونے سے قبل، رات میں گھر کو محفوظ واپسی کے حوالے سے ایک منصوبہ ترتیب دیں۔
- شراب نوشی کا آغاز کرنے سے قبل، کسی ایسے ڈرائیور کا انتخاب کریں جو حالت نشہ میں نہ ہو اور اپنی گاڑی کی چابیاں گھر پر چھوڑیں۔
- اگر آپ نشے کی حالت میں ہیں تو ٹیکسی یا رائیڈ شیئر کرنے کی کوئی خدمت استعمال کریں، دوستوں یا اہل خانہ میں سے کسی ایسے فرد کو بلا لیں جو نشے میں نہ ہو یا پبلک ڈرائنگ و حرکت استعمال کریں تاکہ آپ گھر کو محفوظ واپسی یقینی بنا سکیں۔
- اگر درکار ہو تو، اپنی کمیونٹی کا سوبر رائیڈ پروگرام استعمال کریں۔
- نشے کی حالت میں پیدل چلنا بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جتنا کہ شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ کرنا۔ کوئی ایسا دوست جو نشے کی حالت میں نہ ہو، اس سے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ گھر تک پیدل چلے۔
- اگر آپ کو سڑک پر کوئی نشے کی حالت میں ڈرائیور دکھائی دیتا ہے، تو مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کال کریں۔ آپ ایک زندگی بچا سکتے ہیں۔

GTSC اور نیویارک ریاست کی STOP-DWI فاؤنڈیشن کی "[Have a Plan](#)" موبائل ایپ، Apple، Droid اور Windows اسمارٹ فونز کے لیے دستیاب ہے۔ یہ ایپ نیویارک کے شہریوں کے لئے ممکن بناتی ہے کہ وہ ٹیکسی سروس کا پتہ لگائیں اور کال کریں اور ایک نامزد کردہ ڈرائیور کی فہرست کا پروگرام مرتب کرتی ہے۔ یہ DWI قوانین اور جرمانوں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتی ہے، نیز یہ مشتبہ طور پر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والے شخص کو رپورٹ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418